



## احمد شہزاد پر جرمانہ عائد، سہیل خان اور اظہر علی کو تنبیہ

لاہور، یکم نومبر 2019ء :

قائداعظم ٹرافی فرسٹ الیون ٹورنامنٹ کے میچ میں سنٹرل پنجاب کے کپتان احمد شہزاد پر میچ فیس کا 50 فیصد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ سندھ کے سہیل خان اور سنٹرل پنجاب کے اظہر علی کو پی سی بی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر تنبیہ کر دی گئی۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلا گیا دونوں ٹیموں کے درمیان ایونٹ کے پانچویں راؤنڈ کا سنسنی خیز میچ ڈرا ہو گیا تھا۔

احمد شہزاد کو میچ میں گیند کی حالت بدلنے سے متعلق پی سی بی کے ضابطہ اخلاق کے لیول 1 جرم کا مرتکب پایا گیا۔ گیند کی حالت تبدیل کرنے والے کھلاڑی کی شناخت نہ ہونے کے باعث احمد شہزاد کو نان آئیڈینٹی فیکیشن کی بناء پر بطور کپتان چارج کیا گیا۔

میچ کے دوران سندھ کی پہلی اننگز کے 17ویں اوور میں آن فیلڈ امپائرز نے گیند کا معائنہ کیا تو اس میں تبدیلی دیکھی گئی۔ اس بناء پر آن فیلڈ امپائرز ضمیر حیدر اور محمد آصف نے احمد شہزاد کو پی سی بی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.14 کی خلاف ورزی کرنے پر چارج کیا۔

میچ ریفری ندیم ارشد نے سماعت کے بعد کھلاڑی کی شناخت نہ ہونے کے باعث سنٹرل پنجاب کے کپتان احمد شہزاد پر جرمانہ عائد کر دیا۔

احمد شہزاد کی جانب سے اعتراف جرم نہ کرنے کے باعث معاملے پر سماعت کی گئی۔ جس میں احمد شہزاد کو مجرم قرار دیتے ہوئے نوٹس آف چارج تہمادیا گیا۔

**احمد شہزاد:**

سنٹرل پنجاب کے کپتان احمد شہزاد کا کہنا ہے کہ اس میچ کے دوران گیند کی

حالت میں تبدیلی ایک فطری عمل تھا۔ احمد شہزاد نے کہا کہ انہوں نے میچ آفیشلز کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ گیند کی حالت میں تبدیلی مصنوعی طور پر نہیں کی گئی تاہم ان کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میچ ریفری کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اسے قبول کرتے ہیں۔

احمد شہزاد نے کہا کہ وہ کبھی ایسی کسی سرگرمی میں ملوث ہوں گے اور نہ ہی وہ کبھی اپنے کسی ساتھ کھلاڑی کو کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری معیاری کرکٹ کھیلنا میری ترجیح ہے اور مجھے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔

دوسری جانب سندھ کے سپہیل خان اور سنٹرل پنجاب کے اظہر علی کو میچ کے دوران جملوں کا تبادلہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔

سپہیل خان کو میچ میں وقت ضائع کرنے سے متعلق پی سی بی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.10 کے لیول 1 جرم کا مرتکب پایا گیا ہے۔ اظہر علی کو کھلاڑی، اسپورٹ اسٹاف، امپائر یا ریفری کی سمت میں خطرناک انداز میں گیند پھینکنے سے متعلق پی سی بی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.9 کے لیول 1 جرم کا مرتکب پایا گیا ہے۔

دونوں کھلاڑیوں کو آن فیلڈ امپائرز ضمیر حیدر اور محمد آصف نے چارج کیا۔ دونوں کرکٹرز کی جانب سے اعتراف جرم کرنے کے باعث میچ ریفری ندیم ارشد نے سپہیل خان اور اظہر علی کو تنبیہ کر دی۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

